



سوال

(271) تشہد اول بھول کر چھوڑ دینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک نمازی تشہد اول میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا اور اس نے جب قراءت شروع کی تو اسے یاد آیا تو کیا وہ قراءت چھوڑ کر تشہد میں واپس آ جائے اور اس صورت میں وہ سجدہ سو قبل از سلام کرے یا بعد از سلام؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس صورت میں وہ واپس نہ آئے کیونکہ وہ تشہد سے مکمل طور پر جدا ہو کر اس کے ساتھ والے رکن میں پہنچ گیا ہے، لہذا اس کے لیے واپسی مکروہ ہے اور اگر وہ واپس آ جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ اس نے کسی فعل حرام کا ارتکاب نہیں کیا، البتہ اسے قبل از سلام سجدہ سو کرنا ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں وہ نماز کو جاری رکھے، نہ لوٹے اور واجب میں کسی کو پورا کرنے کے لیے قبل از سلام سجدہ سو کر لے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ ارکان اسلام

عقائد کے مسائل: صفحہ 295

محدث فتویٰ